



سوال

(311) زخمی ہوجانے کی وجہ سے صدقہ کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب کسی شخص کے ہاتھ یا پاؤں وغیرہ پر کوئی زخم آئے تو کیا اس کے لئے یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک جانور ذبح کرے اور اس کا کچھ حصہ صدقہ کرے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

صحت ہو یا مریض، ہر حالت میں صدقہ کرنا درست ہے بلائیں دور ہو جاتی اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ جب کسی شخص کے ہاتھ یا پاؤں یا جسم کے کسی حصہ کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ فقراء پر نقدی، کمانے یا گوشت کا صدقہ کرے، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر کے اس پر اسی طرح رحم فرمائے جو طرح اس نے فقراء پر رحم کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”رحم کرنے والوں پر رحمتیں بھی فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔“ صحیح حدیث میں ہے نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے ”جو رحم نہیں کرتا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۱۹۰ ... سورة البقرة

”اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

نیز فرمایا:

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۵۱ ... سورة الاعراف

”بلاشبہ (یقیناً) اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والے سے قریب ہے۔“

اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات کریمہ ہیں۔

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

ص 425

محدث فتویٰ